



Press Release
February 8, 2017
For immediate release

SECP urges PSX to fulfill its responsibility for investor protection

ISLAMABAD, February 8: Zafar Hijazi, the SECP Chairman, has urged the Pakistan Stock Exchange to fulfill its responsibility as the front line regulator of stockbrokers. The SECP called an emergent meeting with the Board of Directors of PSX yesterday evening to know about the steps that PSX had taken to protect investors of M.R. Securities, a Lahore-based stockbroker who has most recently absconded.

The PSX Board of Directors regretted that information about default of M.R. Securities reached the relevant PSX directors relatively late, when the broker had already disappeared. The Board of Directors informed the SECP that it would thoroughly investigate if some of its officials were negligent in discharging their regulatory responsibilities. The Board assured the SECP that it would complete the investigation into the matter by Monday, February 13, and share its finding with the SECP by 14 February 14. This will be followed by a meeting between the SECP and PSX the same evening to take decisive action.

The SECP Chairman categorically told the PSX Board of Directors that it is unacceptable that some stockbrokers continue to defame the market by defrauding investors. He said that the time has come that the custody of clients' assets and other factors that put the investors at risk are addressed immediately and necessary measures are put into effect. "There is nothing dearer to my heart than investor protection, rest assured, we will take decisive action if PSX fails to shoulder its responsibility as the front line regulator", he said.

He also expressed his disappointment with the role of auditors of stockbrokers who continue to fail in raising red flags. Instead, irregularities in brokerage houses are being identified by investigations through the joint inspection teams and SECP inspections.

In the meantime, the SECP's team remains present in Lahore collecting and analyzing back office data of M.R. Securities. The SECP has directed the PSX management to immediately inform all affected investors through advertisement in the print media on how to lodge their claims with the PSX against the broker.

پی ایس ایکس سرمایہ کاروں کے تحفظ کی اپنی ذمہ داری نبھائے: ایس ای سی پی

اسلام آباد، ۸ فروری: ایس ای سی پی کے چیئرمین ظفر مجازی نے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر زور دیا ہے کہ وہ سٹاک بروکرز کے فرنٹ لائن ریگولیٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان نے گزشتہ شام لاہور کے ایک بروکر ایم آر سکیورٹیز کے حال ہی میں مفروز ہو جانے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر پی ایس ایکس کی جانب سے کئے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔

پی ایس ایکس کے ڈائریکٹروں نے بروکر کے ڈیفالٹ کر جانے سے تاخیر سے باخبر ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایس ای سی پی کو مطلع کیا کہ وہ اس بات کا تنہا ہی سے کھوج لگائیں گے کہ آیا اس کے عہدیداران میں سے بھی کوئی اپنی ریگولیٹری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں غفلت کا مرتکب ہوا۔ بورڈ نے ایس ای سی پی کو یقین دلایا کہ اس معاملے میں تفتیشی عمل سوموار ۱۳ فروری تک مکمل کر لیا جائے گا اور اگلے ہی دن اس ضمن میں ہونے والی پیش رفت سے ایس ای سی پی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد ایس ای سی پی اور پی ایس ایکس کے درمیان اسی شام منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کن قدم اٹھایا جائے گا۔

چیئرمین ایس ای سی پی نے پی ایس ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر واضح کیا کہ سٹاک بروکروں کی جانب سے مارکیٹ کو بدنام کرنے والی ایسی حرکات قطعاً برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں پی ایس ایکس اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اعلیٰ ترین ریگولیٹر کی حیثیت سے ایس ای سی پی سخت قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کے اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لئے فوری طور پر اقدام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے سٹاک بروکروں کے آڈیٹروں کی جانب سے خطرے کی نشاندہی نہ کر سکنے پر مایوسی ظاہر کی۔

دریں اثنا ایس ای سی پی کی ٹیم اس وقت لاہور میں موجود ہے اور ایم آر سکیورٹیز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ انہوں نے پی ایس ایکس سے کہا ہے کہ وہ متاثرہ سرمایہ کاروں کو فوری طور پر اخباری اشتہارات کے ذریعے آگاہ کرے اور ساتھ ہی انہیں اس طریق کار کی بابت بتائے جس کے تحت وہ پی ایس ایکس کے پاس اس بروکر کے خلاف اپنے دعوے دائر کر سکتے ہیں۔